

برائے فوری اجراء

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں بہت جلد شاندار تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں

افراسٹرکچر اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ پیدل چلنے کے راستے کشادہ ہو رہے ہیں۔ عوامی مقامات میں بہتریاں لانی جا رہی ہیں۔

برامپٹن، آن (3 فروری 2022) – ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں زبردست تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ اس مہینے کے آغاز پر ریجن آف پیل کی جانب سے علاقے میں واٹر مین اور سینٹری سیوریجز کو تبدیل اور تعمیر کرنے کے بعد سٹی کی جانب سے فٹ پاتھوں کو تبدیل اور چوڑا کرنے، سڑکوں کی مرمت اور بحالی کا کام شروع کر دیا جائے گا۔

تعمیرات کا کام جنوری کے آخر میں شروع ہونے والا ہے اور موسم کی صورت حال کے مطابق اور کووڈ-19 وبائی مرض کے پیش نظر 2025 میں مکمل ہونے کی توقع ہے۔ ریجن آف پیل کی جانب سے تعمیر کے لیے منصوبے کے عمومی درجوں کا اشتراک بھی کر دیا گیا ہے۔ رہائشی اور کاروباری ادارے اس بارے میں معلومات کا جائزہ [یہاں](#) پر لے سکتے ہیں اور اپنے سوالات یا تبصرے چھوڑ سکتے ہیں۔

کوئین اسٹریٹ پر تعمیرات کے کام کے دوران ہر سمت میں ٹریفک کی ایک لین رکھی جائے گی۔ مین اسٹریٹ پر تعمیرات کے کام کے دوران ٹریفک کی ایک سمت صرف ایک ہی جانب رکھی جائے گی۔ پیدل چلنے والوں کی رسائی عام طور پر تمام کاروباروں تک برقرار رہے گی اور فٹ پاتھ کھلے رہیں گے۔ بولیورڈز کے اندر کچھ قلیل مدتی کام ہوں گے اور اس کے بعد حد بندیوں اور فٹ پاتھوں کو مکمل طور پر تبدیل کیا جائے گا، جس دوران پیدل چلنے والوں کو سڑک کی دوسری جانب سے چلنے کا راستہ فراہم کیا جائے گا۔

یہ توسیعیات سٹی کے انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کو آگے بڑھانے کا ایک اہم حصہ ہیں، جو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کے بہت سے جاری اقدامات اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں مدد دیتا ہے، جس سے ترقی اور سرمایہ کاری کو فروغ حاصل ہو گا۔

مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

ڈاؤن ٹاؤن سٹریٹ سکیننگ

ریجن کے ڈاؤن ٹاؤن انفراسٹرکچر کے کام کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ، سٹی اپنے سٹریٹ سکیننگ کے کام کو آگے بڑھائے گا، جس میں موجودہ فٹ پاتھوں کو پتھر کے پیورز سے تبدیل کرنا اور کوئین اور مین اسٹریٹس کی دونوں جانب چوڑے فٹ پاتھوں کے ساتھ سڑکوں کی دوبارہ سرفسنگ کرنا شامل ہے۔ یہ تقریباً 16.6 ملین ڈالر کی سرمایہ کاری تجارتی سرگرمیوں، پیدل چلنے والوں اور سائیکل سواروں کے لیے شہر میں معیاری جگہیں بنانے اور ایٹوبیکوک اور فلیچرز کریکس کے درمیان فعال روابط استوار کرنے کے علاوہ ڈاؤن ٹاؤن کے مرکز میں پیدل چلنے والے لوگوں کے لیے کشش کا باعث بنے گی۔

ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن پروجیکٹس سنٹر

اب [ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن پروجیکٹس سنٹر](#) (DBPC) ورچوئل طور پر کھلا ہے۔ سٹی کا عملہ ڈاؤن ٹاؤن کے کاروباروں اور رہائشیوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے اور ڈاؤن ٹاؤن کے تزیین و آرائش کے پروگراموں اور اقدامات پر عمل درآمد کو جاری رکھے گا۔ تعمیراتی کاموں کے دوران پیل ریجن کا عملہ بھی موجود رہے گا۔

DBPC کے ذریعے جن منصوبوں کی معاونت کی جائے گی ان میں ریجن کا واٹر مین اور سینٹری سیوریج تبدیل کرنے کا منصوبہ اور [مائی مین اسٹریٹ پروگرام](#) شامل ہیں۔ ایک ڈاؤن ٹاؤن کوآرڈینیٹر مقامی کاروباروں، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA اور منتخب عہدیداروں کی چھوٹے پیمانے پر منصوبوں کو نافذ کرنے اور سٹی کے متعلقہ محکموں تک سوالات پہنچانے میں معاونت فراہم کرے گا۔

DBPC کے متعلق مزید جانیں: www.brampton.ca/downtownbrampton

برامپٹن کی ڈاؤن ٹاؤن بزنس کمیونٹی کووڈ-19 وباء سے شدید طور پر متاثر ہوئی ہے اور سٹی ان کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو کم کرنے اور ان کی معاشی بحالی میں مدد فراہم کرنے کے لیے پُر عزم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی مقامات اور بنیادی ڈھانچے کی بہتری میں سرمایہ کاری کا عمل بھی جاری رکھے ہوئے ہے۔

رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ اس وقت کے دوران ڈاؤن ٹاؤن کے کاروباروں کی طرف جانا جاری رکھیں۔ آپ برامپٹن کے چھوٹے کاروباروں کی ایک مکمل فہرست www.brampton.ca سیورٹ لوکل برامپٹن ویب سائٹ پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

تعمیراتی کاموں کے دوران اپنے پسندیدہ کاروباروں کے قریب موجود پارکنگ کی سہولیات کی دستیابی کی مکمل فہرست دیکھنے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان کے بارے میں

انٹیگریٹڈ ڈاؤن ٹاؤن پلان (IDP) ہمارے کام کا ایک لائحہ عمل ہے - جو ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی کئی جاری اقدامات اور انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کو باہم مربوط کر رہا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ 2051 تک مستقبل کی ترقی اور حکمت عملی کے ساتھ سرمایہ کاری میں ایک رہنما کا کردار ادا کرے گا۔

IDP کے رہنماء اصولوں میں شمولیت، اختراع اور دوام شامل ہیں۔ اس سے بنیادی ڈھانچے کی اپ گریڈیشن، اربن ڈیزائن کی تیاری، زمین کے موزوں استعمال اور مداخلتوں کے پروگراموں کو باہم مربوط کرنے میں مدد ملے گی - جو برامپٹن کو ایک اہم معاشی محرک، علاقائی ثقافتی مرکز اور ایک اختراعی ڈسٹرکٹ کے مقام پر کھڑا کر دے گا۔

IDP کے حوالے سے مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca/IDP ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر، ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کی صلاحیت میں اضافے اور اس میں بہتری لانے کے لیے کام کر رہے ہیں اور اپنے شہر کے مرکز میں معیاری شہری مقامات کی تخلیق اور پیدل چلنے والوں کے لیے خوشگوار تبدیلیاں لا رہے ہیں۔ اگرچہ قلیل مدتی تعمیرات کے دوران معمولات زندگی میں کچھ خلل پڑ سکتا ہے، مگر یہ منصوبے برامپٹن کو ایک اقتصادی ترغیب، علاقائی ثقافتی مرکز اور جدت طرازی میں عالمی رہنماء کے طور پر سامنے لائیں گی۔ ہم اپنے رہائشیوں اور کاروباری اداروں کے صبر کی تعریف کرتے ہیں اور اس کام کے دوران برامپٹن کے مقامی کاروباروں کی معاونت جاری رکھنے کے لیے اپنی کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کو ایک پُر جوش اور کایا پلٹ تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ ریجن کی جانب سے تعمیر کا یہ پہلا قدم ہمارے شہر کے بنیادی ڈھانچے میں بہتری لانے کے لیے انتہائی اہم ہے اور یہ ہمارے لیے اپنے شہر کے بنیادی ڈھانچے کو وسعت دینے کے لیے سڑکوں کی تزئین و آرائش اور دیگر اقدامات کو جاری رکھنے کی بنیاد رکھے گا۔ ہم ان فوائد کے منتظر ہیں جو ڈاؤن ٹاؤن کے مجوزہ کاموں کی تکمیل پر ہمارے ڈاؤن ٹاؤن، رہائشیوں اور مقامی کاروباری اداروں کو حاصل ہوں گے۔"

- پال ویسینٹے، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے ڈاؤن ٹاؤن کے کاروبار کووڈ-19 وباء اور جاری بندشوں کی وجہ سے شدید طور پر متاثر ہوئے ہیں اور ہم اقتصادی بحالی کے سفر میں ان کی ہر ممکنہ مدد کے لیے پُر عزم ہیں۔ میں اپنے رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ وہ تعمیراتی کاموں کے دوران خریداری کرتے رہیں، کھاتے پیتے رہیں اور مقامی چیزیں تلاش کرتے رہیں، تاکہ تعمیراتی کاموں کے اثرات سے ہمارے کاروبار کم از کم متاثر ہوں۔ ریجن کے کام اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاؤن ٹاؤن میں ہمارے اپنے بہت سے اٹھانے جانے والے اقدامات کی وجہ سے ہم سب یکساں طور پر مستفید ہوں گے اور ہمیں ڈاؤن ٹاؤن کو زیادہ متحرک اور لچکدار مرکز بنانے میں مدد ملے گی۔"

- مارٹن میڈیروس، ریجنل کونسلر، وارڈز 3 اور 4: چیئر، اکنامک ڈیولپمنٹ، سٹی آف برامپٹن

"سٹی کی جانب سے، ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کو بہتر بنانے اور اپنے رہائشیوں کے رہنے، کام کرنے اور کھیلنے کے لیے مکمل کمیونٹیز بنانے کے لیے پُر عزم ہیں۔ اپنے عوامی مقامات کو بہتر بنا کر ہم ملازمتیں پیدا کریں گے، ہمیں معاشی بحالی میں بھی مدد ملے گی اور اپنے رہائشیوں کے معیار زندگی کو بہتر بنا سکیں گے۔ ہم اس ضروری اور دلچسپ کام کو مکمل کرنے کے لیے ریجن کے ساتھ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

"سٹی آف برامپٹن کے اپنے پارٹنرز کے ساتھ مل کر ہم اپنے ڈاؤن ٹاؤن کے عوامی مقامات کو بہتر بناتے ہوئے اپنے شہر کے کاروباروں کی جاری بحالی میں معاونت فراہم کرنے کے خواہشمند ہیں۔ میں رہائشیوں کو یاد دلاتی ہوں کہ ان تعمیراتی کاموں کے دوران بھی ہماری مقامی دکانیں، ریسٹورینٹس اور سروسز کے کاروبار کھلے رہیں گے! ہم جانتے ہیں کہ ان شاندار تبدیلیوں کا انتظار کرنا ہمارے لیے بہترین ثمرات لے کر آئے گا!"

- سوزی گوڈفرائے، ایگزیکٹو ڈائریکٹ، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹ ایریا (BIA)

"ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن BIA کی جانب سے، ہم پرجوش ہیں کہ ہمارے علاقے میں شاندار تبدیلیوں کا عمل جاری ہے اور اس سے ہمارے مقامی کاروباروں اور برامپٹن کے رہائشیوں کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوں گے۔ چونکہ ہم کووڈ-19 وباء کے اثرات سے بحال ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی کمیونٹی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تعمیراتی کاموں کے دوران بھی خریداری، کھانے پینے اور مقامی کاروباروں کی اعانت کرنا جاری رکھیں۔ ڈاؤن ٹاؤن میں پارکنگ کے بھی بہت سے آسان اختیارات موجود ہیں، جو شہر کی ویب سائٹ پر ملاحظہ کیے جا سکتے ہیں، ہمارے کاروبار کھلے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں!"

- کیری پرسیوال، چیئر، ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن بزنس امپروومنٹس ایریا (BIA)

-30-

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 لوگوں اور 75,000 کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کشش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ مزید جاننے کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

میڈیا کنٹیکٹ

سٹی آف برامپٹن ملٹی کلچرل میڈیا

multiculturalmedia@brampton.ca